



14

(Smart Charts) دلچسپ چارٹ

4409CH14

کتنے گھنٹے؟

ہم سبھی ٹیلی ویژن دیکھنا یا ریڈیو سننا پسند کرتے ہیں۔



اس میں ہم کتنا وقت خرچ کرتے ہیں؟

❖ ہر دن اپنے ٹی وی اور ریڈیو کے سامنے صرف ہونے والے وقت کو درج کبھی۔ ایسا ایک ہفتے کے لیے کبھی۔ ایک ہفتے میں صرف ہونے والا وقت _____ گھنٹے ہے۔

تو ایک مہینے میں آپ نے تقریباً $30 \times$ _____ = _____ گھنٹے صرف کیے۔

❖ اپنے دوستوں سے دریافت کبھی کہ وہ ایک ہفتے میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں۔



| وہ کتنے گھنٹے ٹی وی دیکھتے ہیں یا ریڈیو سنتے ہیں (ایک ہفتے میں) | بجوان کی تعداد |
|---|----------------|
| 6 گھنٹے سے زیادہ | |
| 6 گھنٹے | |
| 5 گھنٹے | |
| 4 گھنٹے | |
| 3 گھنٹے | |
| 2 گھنٹے | |
| 1 گھنٹہ | |
| صرف گھنٹہ (نہیں دیکھتے) | |

آپ کی ٹیبل سےٹی وی دیکھنا / ریڈ یو سننا

- ❖ پچ ہفتے میں 6 گھنٹے سے زیادہ صرف کرتے ہیں۔
- ❖ پچ کوئی وقت نہیں صرف کرتے۔
- ❖ زیادہ تر پچ ایک ہفتے میں گھنٹے صرف کرتے ہیں۔
- ❖ پچ سے 3 سے زیادہ گھنٹے صرف کرتے ہیں۔

کون سا پروگرام؟

ٹی وی اور ریڈ یو پر بہت سارے پروگرام آتے ہیں مثلاً کارٹوون، خبریں، کھلیل کود، موسیقی، ناٹک، سیریل۔ جو ہی کے والد کو سیریل دیکھنا پسند ہے۔ اس کی ماں کو کھلیل کود پسند ہے۔ جو ہی کو خبروں کے پروگرام پسند ہیں۔

1) اپنے کنبہ کے لوگوں سے پوچھیے کہ ان کے پسندیدہ ایک پروگرام کا نام کیا ہے اور ایک غیر پسندیدہ پروگرام کا نام کیا ہے۔ ایک ٹیبل بنائیے۔

| گھر کے افراد | وہ پروگرام جو انھیں پسند ہے | وہ پروگرام جو انھیں پسند نہیں ہے |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|
| ماں | | |
| باپ | | |
| | | |
| | | |
| | | |

پروگرام کی وہ قسم جو گھر کے زیادہ تر افراد کو پسند ہے۔

پروگرام کی وہ قسم جو گھر کے زیادہ تر افراد کو ناپسند ہے۔

2) اپنے 20 دوستوں سے ان پروگراموں کو معلوم کیجیے جو انھیں پسند ہیں اور ناپسند ہیں اور انھیں ٹیبل میں درج کیجیے۔

| اسے ناپسند کرنے والے بچوں کی تعداد | اسے پسند کرنے والے بچوں کی تعداد | پروگرام کی قسم |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | خبریں |
| | | سیریل |
| | | کارٹون |
| | | مزاحیہ پروگرام |
| | | کھلیل کود |

- ❖ کس طرح کے پروگرام زیادہ تر بچوں کو پسند ہیں؟
- ❖ کس طرح کے پروگرام سب سے کم بچے ناپسند کرتے ہیں؟
- ❖ کتنے بچوں کو کھلیل کود والے پروگرام پسند ہیں؟
- ❖ کیا کوئی ایسا پروگرام ہے جو کوئی بھی پسند نہیں کرتا؟
- ہاں نہیں۔ اگر ہاں، تو کون سا؟

میرا دوست کون ہے؟



میرے ساتھ ہمیشہ میرا ایک دوست رہتا ہے،

راتوں میں اور سارے دن

جب میں دوڑتا ہوں تو وہ میرے ساتھ دوڑتا ہے،

کبھی میں آگے ہو جاتا ہوں، کبھی وہ۔

جب اندھیرا ہوتا ہے تو اسے دیکھا نہیں جاسکتا،

کیا آپ جانتے ہیں میں کس دوست کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟

❖ نظم کو دھیان سے پڑھیے اور ان سوالوں کے جواب دیجیے۔

(a) نظم میں کون سا لفظ سب سے زیادہ آیا ہے؟

(b) کس حرف کا سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے؟

(c) کون سا حرف سب سے کم بار آیا ہے؟

❖ اپنی زبان کی کتاب سے اپنی پسند کا ایک پیراگراف لیجیے۔ دھیان سے پڑھیے اور معلوم کیجیے:

(a) کون سا لفظ کئی بار آتا ہے؟ _____

کتنی مرتبہ؟ _____

(b) کون سا لفظ سب سے کم بار آتا ہے؟ _____

(c) سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ہے _____

(d) سب سے کم استعمال ہونے والا حرف ہے۔ _____

وہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں۔

بچے اُن چیزوں کے بارے میں بات کر رہے تھے جو وہ صحیح کھاتے ہیں اور جو چاول، گیہوں، مکے اور جو وغیرہ کی بنی ہوتی ہیں۔



اپنے کلاس کے ساتھیوں سے معلوم کیجیے اور جدول میں بھریے۔

| خاص کہانا | افراد کی تعداد |
|-----------|----------------|
| چاول | |
| گیہوں | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

جدول دیکھیے اور بتائیے۔


- ❖ زیادہ تر بچے جو کھانا کھاتے ہیں وہ بنا ہوتا ہے _____ سے۔
- ❖ موازنہ کیجیے کہ چاول کھانے والے بچے گیہوں کھانے والوں سے زیادہ ہیں / کم ہیں / برابر ہیں۔
- ❖ موازنہ کیجیے گیہوں کھانے والے بچے راگی کھانے والوں سے زیادہ ہیں / کم ہیں۔

کلاس میں ڈرامے کی تیاری

کلاس کے سبھی بچے ڈرامے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ کچھ بچے ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ کچھ کپڑے اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں۔ کچھ سیٹ تیار کرنے کے لیے کرسیاں اور میزیں لارہے ہیں۔



ڈرامے کا چارٹ



(a) ڈرامے میں کتنے بچے اکھنگ کر رہے ہیں؟

(b) کون زیادہ ہیں۔ سیٹ بنانے والے بچے یا پھر اکھنگ کرنے والے؟

(c) کون سا کام سب سے زیادہ بچے کر رہے ہیں؟


(d) کتنے بچے کپڑے اکھلا کر رہے ہیں؟

کس کا سر بڑا ہے؟

بیکار کا غذ سے ایک لمبی پٹی کا ٹیکے۔

اپنے ہر دوست کو ایک ایک پٹی دیجیے۔

اب کا غذ کی پٹی کو اپنے سر پر لیدئے اور باقی بچی پٹی کو
چھاڑ دیجیے۔ ایک بڑے کاغذ پر ان کا غذ کی پٹیوں کو
ایک لائن سے چپکائیے۔



| |
|-------|
| مدھو |
| روہت |
| رمیش |
| صادق |
| شمینہ |

کچھ بچوں نے اپنی پٹیاں چپا کر ایک چارٹ بنایا، اس طرح سے

آپ کا چارٹ بھی ایسا ہی نظر آنا چاہیے۔

❖ ایک پیمانے کا استعمال کر کے اپنے چارٹ سے معلوم کیجیے:

سab سے لمبی پٹی کی لمبائی ہے _____ سینٹی میٹر۔ اس لیے _____ کا سر سب سے بڑا ہے۔


سب سے چھوٹی پٹی _____ کی ہے۔ سینٹی میٹر لمبی ہے۔ یہ _____ کی ہے۔

چپاتی چارٹ

اسکول میں سبھی بچے مختلف کلبوں میں حصہ لیتے ہیں۔



”چپاتی“ چارٹ مختلف کلبوں میں بچوں کی تعداد کو دکھاتا ہے



تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ:

- (a) کلاس کے آدھے بچے کھیل کوڈ کے کلب میں حصہ لیتے ہیں۔
- (b) ایک چوتھائی بچے باغ کے کلب کے ارکان ہیں۔
- (c) ڈرائیور کلب میں کلاس کے ایک چوتھائی بچے ہیں۔

اگر اسکول میں 200 بچے ہیں، تو اپر دیے ہوئے چھاتی چارٹ کو دیکھ کر ہر کلب کے نمبروں یا ارکان کی تعداد بتائیے۔


- ❖ کھیل کوڈ کے کلب میں _____ نمبر ہیں۔
- ❖ باغ کے کلب میں _____ نمبر ہیں۔
- ❖ ڈرائیور کلب میں _____ نمبر ہیں۔

بارش میں بھیگ جانا

کون بارش میں بھیگنا پسند کرتا ہے؟ ایک بچے نے اپنے ساتھیوں سے پوچھنے کے بعد اسکا چھاتی چارٹ بنایا۔



وہ جو بارش میں بھیگنا
پسند نہیں کرتے



وہ جو بارش میں بھیگنا
پسند کرتے ہیں۔

چھاتی چارٹ دیکھیے اور بتائیے۔

(1) کتنے بچے بارش میں بھیگنا پسند کرتے ہیں؟

- (a) آدھے (b) ایک چوتھائی
- (c) تین چوتھائی

(2) کتنے بچے بارش میں بھیگنا پسند نہیں کرتے؟

- (a) آدھے (b) ایک چوتھائی
- (c) تین چوتھائی

اگر کلاس میں بچوں کی تعداد 28 ہے، تو ان بچوں کی تعداد بتائیے:

- ❖ جو بارش میں بھیگنا پسند کرتے ہیں۔
- ❖ جو بارش میں بھیگنا پسند نہیں کرتے ہیں۔

چائے، کافی یا دودھ

کچھ بچوں سے پوچھا گیا کہ انھیں چائے، کافی اور دودھ میں سے کیا پسند ہے۔



| ان کی پسندیدہ پینے کی چیز | بچوں کی تعداد |
|---------------------------|---------------|
| دودھ | 20 |
| کافی | 10 |
| چائے | 10 |

بچوں کی کل تعداد

جدول معلوم کیجیے۔

- ❖ بچے جو دودھ پسند کرتے ہیں وہ بچوں کی کل تعداد کا $\frac{1}{4} \text{ } \frac{1}{2}$ ہیں۔
- ❖ بچے جو کافی پسند کرتے ہیں وہ بچوں کی کل تعداد کا $\frac{1}{4} \text{ } \frac{1}{2}$ ہیں۔
- ❖ چائے، کافی یا دودھ کو پسند کرنے کی عادت کو چپاتی چارٹ سے دکھائیے۔